



”نہ ریشم و دیباج پہنو، نہ سونہ اور چاندی کے برتن میں کچھ پیو اور نہ ہی ان سے بنی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ۔ یہ دنیا میں ان (کفار) کے لیے اور آخرت میں ہمارے لیے ہیں“

عبدالرحمن بن ابولیلی سے روایت ہے کہ وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے کہ اسی دوران انہوں نے پینے کے لیے پانی مانگا، تو ایک مجوسی نے ان کو پانی پیش کیا جب اس نے پانی کا پیالہ ان کے ہاتھ میں رکھا، تو انہوں نے اس سے مار دیا اور فرمایا: اگر میں اسے ایک دو بار اس سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا - گویا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ: میں نے ایسا یوں ہی نہیں کیا - ، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ”نہ ریشم و دیباج پہنو، نہ سونہ اور چاندی کے برتن میں کچھ پیو اور نہ ہی ان سے بنی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ۔ یہ دنیا میں ان (کفار) کے لیے اور آخرت میں ہمارے لیے ہیں“

[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ہر طرح کے ریشمی کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے جب کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو سونہ اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع کیا ہے ساتھ ہی بتایا کہ یہ چیزیں قیامت کے دن ایمان والوں کو بطور خاص نصیب ہوں گی کیوں کہ وہ ان سے دنیا میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بچتے رہیں۔ جب کہ اس کے برخلاف کافروں کو آخرت میں یہ چیزیں نصیب نہیں ہوں گی کیوں کہ وہ دنیوی زندگی میں اللہ کے حکم کو بالائے طاق رکھ کر ان چیزوں سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/2985>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

